

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ
1، جولائی 2020

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کوویڈ 19 کے ایام میں معاشرتی خرابی اور صحت کے مسائل پر ویبنار کا اہتمام

شعبہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کوویڈ 19 کے ایام میں معاشرتی خرابی اور صحت کے مسائل پر ایک ویبنار کا اہتمام کیا۔ ویبنار میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سنٹر فار سوشل میڈیسن اینڈ کمیونٹی ہیلتھ ، اسکول آف سوشل سائنسز ، سے پروفیسر سنگھامیترا شیل آچاریہ قلیدی مقرر تھے۔ اس کا ویبنار سیریز / اہتمام یو جی سی ڈی آر ایس -اول نے 26 جون ، 2020 کو کیا تھا ۔

پروگرام میں پروفیسر پی کے جوشی ، چیئر پرسن ، مرکز برائے ڈیزاسٹر ریسرچ ، پروفیسر جے ایس جیسے سکالرز نے شرکت کی۔ پروفیسر جے ایس راوت ، گڑھوال یونیورسٹی ،المورہ، پروفیسر سید مسعود احمد اور پروفیسر شکیل احمد ، (پروفیسر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ) کے علاوہ شعبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ شعبہ جغرافیہ کے فیکلٹی ممبران ، جے این یو اور ملک کے دیگر حصوں سے محققین اور طلباء واسکالرز نے شرکت کی۔

پروگرام کا آغاز پروفیسر عتیق الرحمن (کوآرڈینیٹر ، یو جی سی ڈی آر ایس -1) کے تعارفی کلمات سے ہوا۔ اس کے بعد پروفیسر مریم طاہر (کوآرڈینیٹر ، یو جی سی ڈی آر ایس 1 اور ہیڈ ، شعبہ جغرافیہ) کے ذریعہ استقبالیہ کلمات اور تعارف کے بعد ہوا۔

پروفیسر سنگھامیترا نے مثالوں ، اعداد و شمار اور حقائق کی مدد سے موضوع سے متعلق مسئلے کی پیچیدگیوں کی وضاحت کی ۔ انہوں نے بتایا کہ جی ڈی پی کی بہت چھوٹی رقم پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر پر خرچ کی جاتی ہے۔ کو ویڈ 19 کے پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے معاملات میں خصوصی طور پر غور کرنے کی ضرورت ۔

انہوں نے ہسپتال کے معاونین اور طلباء کی پریشانیوں سے متعلق گفتگو میں کہا طلباء کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے امتحانات اور کیریئر سے متعلق انہیں مناسب طریقے سے حل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے غریب اور تارکین وطن کی حقیقی ضروریات پر بھی توجہ مرکوز کرنے کی بات کہی ۔

کلمات تشکر ڈاکٹر ترنا بنسل نے ادا کیے ۔ انہوں نے وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسر نجمہ اختر کا شکریہ ادا کیا اور کہا یونیورسٹی میں علم و دانش کے ماحول کو بقاء کے درمیان بھی باقی رکھنے میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ قابل تحسین ہے انہوں نے اسپیکر سمیت دیگر معززین اور طلباء کا جنہوں نے ویبنار میں حصہ لیا ان سب کا شکریہ ادا کیا۔

احمد عظیم
پی آر او میڈیا کوآرڈینیٹر

